

بدھ، 2 جنوری 2019

برامپٹن میں بھنگ کے اسٹور کھولنے پر اپنی رائے دیں

برامپٹن، آن - سٹی آف برامپٹن اس حوالے سے اپنے شہریوں کی رائے حاصل کر رہا ہے کہ آیا بھنگ کے ریٹیل اسٹوروں کو برامپٹن میں کام کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔

آپ کے پاس اپنی رائے دینے کے لیے کئی طریقے موجود ہیں مثلاً پورے شہر میں منعقد ہونے والے بالمشافہ سرویز میں، ٹاؤن ہال میں منعقد ہونے والی تقریب میں اور ایک اسپیشل کونسل میٹنگ کے دوران آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔

بھنگ اور بھنگ کے اسٹور کھولنے کے حوالے سے قانونی سازی کے بارے میں بے شمار معلومات brampton.ca/cannabis پر دستیاب ہیں اور اس کے علاوہ وابستہ رہنے کے مواقع کے بارے میں باقاعدہ اپ ڈیٹس کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔

بالمشافہ سرویز (انگریزی، فرانسیسی، پنجابی، ہندی، اردو، تامل اور گجراتی زبانوں میں دستیاب ہیں):

8 جنوری 2019

- شام 6 - 8 بجے تک، بمقام برامپٹن سوکر سنٹر، 1495 سینڈ ووڈ پارک وے ایسٹ۔
- شام 6 - 8 بجے تک، بمقام کیسی کیمپ ہیل کمیونٹی سنٹر سنٹر، 1050 سینڈ ووڈ پارک وے ویسٹ۔
- شام 6 - 8 بجے تک، بمقام ارنز کلف ری کرینیشن سنٹر، 44 ایسٹ بورن ڈرائیو۔

9 جنوری 2019

- شام 6 - 8 بجے تک، بمقام گور میڈوز کمیونٹی سنٹر اینڈ لائبریری 10150 دی گور روڈ۔
- شام 6 - 8 بجے تک، بمقام چنگواکوسی ویلنٹس سنٹر، 995 پیٹر رابرٹسن بولیویرد۔

10 جنوری 2019

- شام 6 - 8 بجے تک، بمقام سنچری گارڈنز ری کرینیشن سنٹر، 340 ووڈین اسٹریٹ ایسٹ۔
- شام 6 - 8 بجے تک، بمقام ساؤتھ فلیچرز سپورٹس پلےکس، 500 رے لاسن بولیویرد۔
- شام 1 - 4 بجے تک، بمقام فلاور سٹی سینٹرز ری کرینیشن سنٹر، 8870 میک لافلن روڈ۔

برامپٹن ٹاؤن ہال میں تقریب: بھنگ کے ریٹل اسٹورز

- مورخہ 10 جنوری، شام 7 بجے، بمقام کنزرویٹری، سٹی ہال: برامپٹن میں بھنگ کے ریٹیل اسٹوروں کے بارے میں معلومات اور پینل بات چیت کے لیے تشریف لائیں۔ ہماری [فیس بک](http://www.brampton.ca/cannabis) تقریب کے صفحہ میں اپنی شمولیت کو رجسٹر کریں یا ہمیں cannabis@brampton.ca پر ای میل کریں۔ ٹاؤن ہال میں ہونے والی تقریب بھی [Facebook.com/CityBrampton](https://www.facebook.com/CityBrampton) پر براہ راست نشر کی جائے گی۔

اسپیشل کونسل میٹنگ

• 21 جنوری 2019 کو شام 7 بجے ایک اسپیشل کونسل میٹنگ منعقد کی جائے گی۔

اقتباس

"ہم برامپٹن کے رہائشیوں کے خیالات سننا چاہتے ہیں۔ اس اہم مسئلے پر کونسل ایک مطلع فیصلہ کرنا چاہتی ہے، لہذا براہ کرم اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ان مواقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca